

English Transliteration

* اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ^ج مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ^ط الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ^ط
الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ ^س لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ
يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ^ج نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ ^ج مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ
الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ^ق وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Allahu nooru alssamawati waalardi mathalu noorih kamishkatin feeha

misbahun almisbahu fee zujajatin alzzujajatu kaannaha kawkabun

durriyyun yooqadu min shajaratin mubarakatin zaytoonatin la

sharqiyyatin wala gharbiyyatin yakadu zaytuha yudeeo walaw lam

tamsashu narun noorun AAala noorin yahdee Allahu linoorih man

yashao wayadribu Allahu alamthala lilnnasi waAllahu bikulli shayin

AAaleemun